



سوال

سود کی رقم سے خریدی گئی بھینس کا دودھ خریدنا؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا سود کی رقم سے خریدی گئی بھینس کا دودھ حلال رقم سے خرید کر استعمال کرنا جائز ہے؟ جبکہ دودھ خریدنے والا جانتا ہے کہ بھینس سود کے پیسوں سے خریدی گئی ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جی ہاں جائز ہے، کیونکہ سود کا تعلق بھینس کے مالک سے ہے، جو گناہ گار ہے۔ اور دودھ خریدنے والا تو اپنی حلال کی کمائی سے خرید رہا ہے، بھینس کے مالک کا گناہ خریدار پر نہیں آئے گا۔ ہاں البتہ اس مالک کو سمجھایا جائے کہ سودی کاروبار حرام ہے آپ اس سے توبہ کر لیں۔

ہدایا معذی واللہ اعلم بالصواب

فتویٰ کیٹی

محدث فتویٰ